

لگ سیف - محفوظ طریقے سے کھانا پکانا

تحفظ خوراک کا حصہ نظم

5. اندر اجات

اس حصہ میں آپ کو دیگر تمام حصوں سے باہمی ربط کی غرض سے استعمال کرنے کے متعلق رہنمائی اور نمونے دیئے گئے ہیں

اندراجات

جب آپ گک سیفت (CookSafe) سے استفادہ کرتے ہیں تو یہ لازمی ہوتا ہے کہ آپ کے نگرانی کے طریقوں کا ایسے وقفوں سے اندر اجات کیا جائے جس سے آپ کے کاروبار کی نوعیت اور جگہ کی عکاسی ہو۔ اسی طرح جب نگرانی کے عمل کے دران آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے داخلی قواعد کے معین کردہ کام کے طریقوں پر عمل نہیں ہو رہا تو آپ کے کئے گئے اصولی اقدام کا بھی لازمی طور پر اندر اجات کیا جانا چاہئے۔ اندر اجات کرنے سے نہ صرف آپ کو اپنے کاروبار کے اندر خوارک کے تحفظ کے طریقوں کی صحیح پڑھات کرنے میں مدد ملے گی بلکہ آپ کو دوسروں پر یہ ثابت کرنے میں مدد ملے گی کہ آپ ممکنہ خطرات پر موثر طور پر قابو پار ہے ہیں۔

کون سے اندر اجات لازمی طور پر رکھنا چاہئیں؟

یہ اسے سی سی پی (HACCP) پر مبنی طریقہ کارکے تحت آپ کو مندرجہ ذیل اندر اجات کی ضرورت ہو گی:

- نگرانی کے ذریعہ پڑھات - آپ کو ان کے پارے میں اپنے داخلی قواعد تیار کرنے وقت فیصلہ کرنا ہو گا
- تصدیقی پڑھات - انتظامی نوعیت کی اس پڑھات کی تفصیلات کو پہلے ہی گک سیفت (CookSafe) کے اندر اجات فارم میں شامل کیا جا چکا ہے
- یہ اسے سی سی پی (HACCP) پر مبنی آپ کے نظام پر نظر ثانی - یہ نظر ثانی کب کرنا چاہئے اس پارے میں رہنمائی اس حصے کے آخر میں نظر ثانی کے اندر اجات سے حاصل کی جاسکتی ہے

کیا کاغذی کارروائی کرنے کی ضرورت ہو گی؟

نگرانی کے ذریعہ پڑھات کے عمل کا اندر اجات مندرجہ ذیل کسی ایک یا کچھ طریقوں کے مجموعے کو ایک ساتھ استعمال کر کے کر سکتے ہیں:

- 1- گک سیفت (CookSafe) میں فراہم کئے گئے اندر اجات فارم کو استعمال کر کے
- 2- تحریری شکل یا برقراری ذرائع (کمپیوٹر وغیرہ میں) سے اپنے تیار کردہ یا اپنے لئے تبدیل کردہ اندر اجات فارم استعمال کر کے لیکن ان فارموں میں لازماً گک سیفت (CookSafe) کے اندر اجات فارم جتنی ہی معلومات ہونا چاہئیں۔

گک سیفت (CookSafe) کے فراہم کردہ کون سے اندر اجات فارم استعمال کرنا چاہئیں؟

اگر اس دستور العمل میں دیے گئے اندر اجات فارم مناسب طور پر استعمال کے جایں تو نہ صرف اس سے آپ کو یہ اسے سی سی پی (HACCP) پر مبنی نظام کے تفاضلوں کو پورا کرنے اور معاونت میں مدد ملے گی بلکہ اس سے ثابت ہو گا کہ یہ نظام موثر طور پر کام کر رہا ہے۔

جب آپ گک سیفت (CookSafe) سے استفادہ کریں گے تو آپ کو مندرجہ ذیل "نگرانی کے اندر اجات" میسر ہو نگے جو استعمال کئے جاسکتے ہیں:

نگرانی کا اندر اجات	مقصد
سامان کی رسد کا اندر اجات	آئندہ اشیاء نے خوردنو ش کی گک نگرانی کا اندر اجات کرنا
سرد اشیائے خوردنو ش کا اندر اجات	ریزبریزٹر، سرد خانے، ٹھنڈی اشیاء رکھنے کے نمائش یوں نوں اور فریزر (فریزوں) کی کارکردگی کی نگرانی کا اندر اجات کرنا
گرم درجہ حرارت کا اندر اجات	سکھانے پکانے، ٹھنڈا کرنے کے درجہ حرارت کا اندر اجات کرنا
سکھانے گرم حالت میں رکھنے کا اندر اجات	سکھانے گرم حالت میں رکھنے کے درجہ حرارت کا اندر اجات کرنا
دوسری جگہ پر درجہ حرارت کا اندر اجات	اپنے سکھانے تیار کرنے کی جگہ سے باہر پہنچانے کے موقع پر سرد یا گرم سکھانوں کے درجہ حرارت کا اندر اجات کرنا مثلاً گاہک کے گھر کھانا پہنچانا یا کی اور جگہ فراہم کرنا
یاد رکھیں - کہ بیشتر کاروباروں میں مندرجہ بالا تمام اندر اجات کی جائے ایک ہی جام اندر اجات کیا جاسکتا ہے۔	
صفافی کرنے کے کاموں کا گوشوارہ	صفافی کرنے کے کاموں کا گوشوارہ
ہفتہ واری ریکارڈ	آپ کے تمام داخلی قواعد اور اندر اجات کی ہر جتنہ انتظامی پڑھات کا اندر اجات کرنے کے لئے
تفصیلی پر دب تصریح میٹر کی مہانہ پڑھات	تصریح میٹر (تھرما میٹر) کی مہانہ پڑھات کا اندر اجات کرنے کے لئے
نظر ثانی	یہ اسے سی سی پی (HACCP) پر مبنی آپ کے نظام میں کام کے طریقوں کی شناسی پڑھات اور درمیانی مدت میں کی کی پڑھات کا اندر اجات کرنے کے لئے

یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ آپ کا نظام موثر طور پر کام کر رہا ہے آپ کو مندرجہ بالا اندر اجات ایک معقول مدت تک محفوظ رکھنے کی ضرورت ہو گی۔ مزید معلومات و مشورے کے لئے اپنے عمل درآمد کرنے والے افسر [Enforcement Officer] سے رابط کریں۔

5.2 (RECORDS) اندراجات

فراءہم (ڈلیور) کئے جانے والے سامان کا اندر اج - اس اندر اج کا متبادل طریقہ "جامع اندر اج" بھی ہے۔

یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ فرائم کرده سامان کی ہر کمیٹ میں سے آپ کو اشیا کے خود نوش کی کتنی اشیاء کی تفہیش (پروپ) یا پڑتاں کرنا چاہئے

یہاں اپنی لازمی پابندی کی حدود تحریر کریں:

تیریخ	اہم حدود	سرداشیاے خورونوش
		محمد اشیائے خورونوش
		پنجی اشیاء / پکے ہوئے کھانے / تیار کھانے علیحدہ علیحدہ رکھنا
		کھانوں کی حالت
		تاریخ کی کوڈگانہ:

دستخط	منیجروں پر دائزر کی طرف سے پڑتاں کی تاریخ	کیا اصلاحی اقدامات کئے گئے ہیں؟ پاں / نہیں / اطلاق نہیں ہوتا (غیر موزوں جواب کاٹ دیں)
.....

اندرجات (RECORDS)

سرداشیا کے خور و نوش کا اندرجات - ("اس اندرج کا متبادل طریقہ "جام اندرج" بھی ہے)۔

تمیینہ:

دستخط	اصلی اقدامات	یونٹ											
		بعد دوپہر صبح											
													1st
													2nd
													3rd
													4th
													5th
													6th
													7th
													8th
													9th
													10th
													11th
													12th
													13th
													14th
													15th
													16th
													17th
													18th
													19th
													20th
													21st
													22nd
													23rd
													24th
													25th
													26th
													27th
													28th
													29th
													30th
													31st

اہم حدود یہاں لکھیں:

اصلی اقدام کی مثالیں:	تشریع	اہم حد
• درج حرارت کی دوبارہ پڑائی		ریفریجریٹر (ز)
• جائزہ لیں اشیاء کے خور و نوش قبل استعمال بین یا نہیں		سرد خانہ (خانے)
• آکوڈی کے ٹبے والی غذا پیکنک دیں		اشیاء، ٹھنڈی رکھنے کے نمائی یونٹ
• عملہ کی تربیت پر نظر ثانی کریں		فریزر (ز)
• انچینسٹر کو بلائیں		

دستخط	منیجر اسپردائزر کی طرف سے پڑائی کی تاریخ	کیا اصلی اقدامات گئے ہیں؟
		ہاں / نہیں / اطلاق نہیں ہوتا (غیر موزون جواب کاٹ دیں)

امداد	تشریح	محاذات کا	امدادی افادہ کی مطالیں:
	<ul style="list-style-type: none"> • آپ کے ستر کردار درجہ حرارت کو پہنچنے کے کام نے کوکا نئے دیں • جانشینی کے حفاظاتی اسٹول بے اگر کھانا اگلودہ ہو چکے ہے تو پیسے دیں • جانشینی کے حفاظاتی اسٹول بے اگر کھانا آلوہ ہو چکا ہے تو پیسے دیں • کھانا ٹھیٹا کر نے سے مسلسل ای صلح کرنی احمد کی تربیت پر لٹڑائی کرنی • آپ کے ستر کردار درجہ حرارت کو پہنچنے کے کام نے کوکا نئے دیں • احمد کی تربیت پر لٹڑائی کرنی 	کھانا ٹھیٹا کرنا	
		کھانا ٹھیٹا کرنا	
		کھانا ٹھیٹا کرنا	
		کھانا ٹھیٹا کرنا	

اہم صد و دو کامیاب اندراج کریں:

مکالمہ

اصلی اقدام کی مثالیں:

منہجِ اسپر وائز کی ملوف سے پڑھاں کی تاریخ

کیا اصلحی اقدامات کرنے کے لیے؟

کی اسلامی افادات کے لئے
ہال ا نہیں الائق نہیں ہوتا (غیر مزون جواب کا دلیل)

5.5 (RECORDS) اندراجات

کھانے گرم حالت میں رکھنے کا اندر ارج

یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہر روز کتنی اشیائے خور و نوش کی پڑھان کرنا ہے۔ اس اندر اج کا مقابل "جااج اندر اج" ہے۔

اہم حدود یہاں لکھیں:

اصلی اقدام کی مثالیں:	تشریح	اہم حد	کھانے کرم حالت میں رکھنا
<ul style="list-style-type: none"> • جائزہ لیں کہ کھانا استعمال کے قابل ہے یا نہیں / جس کھانے پر آسودگی کا شہر ہو اسے پہنچن دیں، 			

<p>دستخط</p> <hr/> <p>.....</p>	<p>منیجر/ سپر دائزر کی طرف سے پڑھان کی تاریخ</p> <hr/> <p>.....</p>	<p>کیا اصلاحی اقدامات کئے گئے ہیں؟</p> <p>ہاں / نہیں / اطلاق نہیں ہوتا (غیر موزوں جواب کاٹ دیں)</p>
---------------------------------	---	---

5.6 (RECORDS) اندر احات

(آپ کے کاروبار سے باہر) دوسرا جگہ پر درجہ حرارت کا اندرائج یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہر روز لکنی اشیائے خور و نوش کی پڑھان کرنا ہے۔ اس اندرائج کا تبادل "جائج اندرائج" ہے۔

اہم حدود یہاں لکھیں:

اصلی اقدام کی مثالیں:	تصریح	اہم حد	
<ul style="list-style-type: none"> • جائزہ یعنی کوئی کھانا استعمال کے قابل ہے یا نہیں / جس کھانے پر آسودگی کا شہر ہو اُسے پھینک دیں، 			کھانے گرم حالت میں رکھنا

دستخط	منیجہ / سپر دائزر کی طرف سے پڑتاں کی تاریخ	کیا اصلاحی اقدامات کئے گئے ہیں؟ ہاں / نہیں / اطلاق نہیں ہوتا (غیر موزون جواب کاٹ دیں)
-------	--	--

اے روزانہ مکمل کریں اور الگ اندرجات کے واحد متبادل کے طور پر استعمال کریں: "سامان کی رسید کا اندرج" ، "سرداشیاے خور و نوش کا اندرج" ، "گرم درجہ حرارت کا اندرج" ، "محکم حالت میں رکھنے کا اندرج" اور "دوسری بُلگ پر محکمانوں کے درجہ حرارت کا اندرج"

تاریخ:

اشیاء کی فراہمی - یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ فراہم کردہ اشیاء کی ہر کمیپ میں سے کتنی چیزوں کی تفہیض کرنا چاہئے			
			اشیاء کی فراہم کرنے والے کا نام
			اشیاء کے خور و نوش کی تفصیلات
			سامان لانے والی گاڑی کی حالت • صفائی سترانی • کچھ اشیاء اور پکے ہونے ایسا کھانوں کو علیحدہ رکھنا
			کھانوں کا درجہ حرارت • اہم حد - سرد کھانے • اہم حد - مہم کھانے
			اشیاء کے خور و نوش کی حالت • جس پیشج میں لائی گئیں / آسودگی
			مقررہ تاریخوں کی کوڈ کے اندر • "قابل استعمال" رہنے یا "بہترین رہنے" کی تاریخیں
			اصلی اقدامات • اشیاء روکریں • فراہم کنندہ کی نظر ثانی • عملہ کی تربیت کی نظر ثانی

سرداشیاے خور و نوش کا اندرج

یونٹ	یونٹ	یونٹ	یونٹ	ریفریجریٹر / سردخانہ / ٹھنڈی اشیاء کا نمائشی یونٹ • اہم حد.....
بعد دوپہر	قبل دوپہر	بعد دوپہر	قبل دوپہر	درجہ حرارت کی پڑتال (روزانہ دوبار کرنے کی سفارش)
یونٹ	یونٹ	یونٹ	یونٹ	فریزر • اہم حد.....
				کارکردگی کی پڑتال (روزانہ ایک پارکی سفارش)
				اصلی اقدامات • درجہ حرارت کی دوبارہ پڑتال کریں • جائزہ لیں خود اک قبل استعمال ہے یا نہیں • عملہ کی تربیت پر نظر ثانی کریں •

جامع اندرجات - 2 صفحات میں سے 2

گرم درجہ حرارت کا اندرجات - آپ درجہ حرارت پر قابو رکھنے کے اپنے داخلی قواعد میں نگرانی کرنے کے وقتوں کا تعین کریں

کھانا پکانے کے لئے اپنی اہم حد کا اندرجات یہاں کریں:

کھانے ٹھڈے کرنے کے لئے اپنی اہم حد کا اندرجات یہاں کریں:

کھانے دوبارہ گرم کرنے کے لئے اپنی اہم حد کا اندرجات یہاں کریں:

دوبارہ گرم کرنا	کھانا ٹھڈنا کرنا	کھانا پکانا			اشیاء کے خور و نوش
غذا کے مرکز کا درجہ حرارت	کس وقت کھانا پکانا تھم کیا	غذا کے مرکز کا درجہ حرارت	کس وقت کھانا پکانا تھم کیا	کس وقت کھانا پکانا شروع کیا	

نوت:	اصلی اقدامات: پکائی: <ul style="list-style-type: none"> اپنے مقرر کردہ درجہ حرارت کو ہمینچے نکل کھانے کو پکائے رہیں جانزہ لیں کہ کھانا قابل استعمال ہے یا نہیں / آسودگی کا شہر ہو تو کھانا پہنچنے دیں کھانا ٹھڈنا کرنا: <ul style="list-style-type: none"> جانزہ لیں کہ کھانا قابل استعمال ہے یا نہیں / آسودگی کا شہر ہو تو کھانا پہنچنے دیں کھانا ٹھڈنا کرنے کے عمل کا دوبارہ جائزہ لیں / عمد کی تربیت پر لظیحاتی کریں دوبارہ گرم کرنا: <ul style="list-style-type: none"> اپنے مقرر کردہ درجہ حرارت کو ہمینچے نکل کھانے کو دوبارہ گرم کرنا باری رکھیں عدم کی تربیت پر لظیحاتی کریں
------	---

کھانے مسلسل گرم حالت میں رکھنے کا اندرجات اور ایادو سری جگہ پر کھانے کے درجہ حرارت کا اندرجات
آپ درجہ حرارت پر قابو رکھنے کے اپنے داخلی قواعد میں نگرانی کے دریافتی وقتوں کا تعین کریں
کھانے گرم رکھنے اور ایادو سری جگہ پر کھانے کے درجہ حرارت کے لئے اہم حد کا اندرجات کریں:
کھانے کا نام
مرکز کا درجہ حرارت
پڑال کرنے کا وقت

یادداشت کے لئے نوٹ:	اصلی اقدامات:
	جانزہ لیں کہ کھانا قابل استعمال ہے

..... تاریخ منیر امدادی کے دستخط

ہر ہفتہ ہفتہ داری اندرجات (Weekly Record) مکمل کرنا بھی یاد رکھیں

منیجمنٹ کام والے ہر ہفتہ کے دوران مندرجہ ذیل مسلسل پڑھائیں کریں نیز گک سیف (CookSafe) سے استفادہ کرنے والے تمام کاروبار بھی یہ پڑھائیں۔

ہفتہ کی ابتداء:

تریبیت	بان	نئیں	اطلاق نہیں ہوتا
کیا تربیت دینے کے داخلی قواعد پر عمل کیا گیا؟			
• سارا نیا عمدہ بیسوس نے خالی ہونے والے			
• رسمی تربیت			
• دوبارہ تربیت اپنے اسی سی پی پی کی تربیت			
• دیگر نوعیت کی تربیت			

ذاتی حفظان صحت	بان	نئیں	اطلاق نہیں ہوتا
کیا ذاتی حفظان صحت کے داخلی قواعد پر عمل کیا گیا؟			
• ذاتی صفائی ہاتھوں ہونے کی سو لیس			
• حفاظتی لباس			
• بیماری / کام سے منع			

صفائی	بان	نئیں	اطلاق نہیں ہوتا
کیا صفائی کرنے کے کاموں کے گوشوارے پر عمل کیا گیا؟			
• تمام تھیں کہہ آلات و سامان اور علاقوں			
• دریافتی و قنے			
• طریقہ کار			

بامی آسودگی کی روک تھام	بان	نئیں	اطلاق نہیں ہوتا
کیا بامی آسودگی کی روک تھام کے داخلی قواعد پر عمل کیا گیا؟			
• کارکن			
• سامان لانے والی کارڈیان			
• ذخیرہ کرنا			
• شمعہ کرنا			
• سامان و آلات			
• الرجی کے بارے میں سکاہی			

نقصان دہ جاندار	بان	نئیں	اطلاق نہیں ہوتا
کیا نقصان دہ جانداروں پر مقابو کھنے کے داخلی قواعد پر عمل کیا گیا؟			
• نقصان دہ جانداروں کو روکنا			
• کیڑے کوڑوں کو روکنے والی جایں ایکھیاں مارنے کے آلات			
• اچھی گھریلو نگهداری کا سلیمانی			

کوڑا کرکٹ کا بندوبست کرنا	بان	نئیں	اطلاق نہیں ہوتا
کیا کوڑا کرکٹ کا بندوبست کرنے کے داخلی قواعد پر عمل کیا گیا؟			
• اشیائی خود و نوش کے محبوں میں کوڑا کرکٹ			
• کوڑا کرکٹ کو انجمنا			

کار آمد حالت میں رکھنا	بان	نئیں	اطلاق نہیں ہوتا
کیا کار آمد حالت میں رکھنے کے داخلی قواعد پر عمل کیا گیا؟			
• سامان لانے والی کارڈیان			
• عمارت کاٹھانچے			
• بجلی کی تفصیلات اپنکن			
• کام کرنے کی سلیمانی			
• سامان و آلات برتن / اوزار			
• ہوا کی آمدورفت			

ہفتہ واری اندرجات - 2 صفحات میں سے 2

غذا کی مقدار پر گنسرول	بان	نہیں	اطلاق نہیں ہوتا
کیا غذا کی مقدار پر گنسرول کرنے کے داخی قواعد پر عمل کیا گیا؟			
• سامان کی رسہ			
• ذخیرہ کرنا			
• ذخیرہ شدہ مقدار کو استعمال کرنے کی ترتیب			
• لیبل لگانا			
• اشیائی خود و نوش کو محفوظ بنانا۔			

اندرجات	بان	نہیں	اطلاق نہیں ہوتا
کیا اندرجات کے درست فارمول پر درج حرارت کی تمام ضروری پڑائی کا اندرجات کیا گیا ہے؟			
• سروشاپی خود و نوش کا اندرجات			
• گرم درج حرارت کا اندرجات			
• سکھانے مسلسل کم حالت میں رکھنے کا اندرجات			
• دوسرا جگہ حکماں کے درجہ حرارت کا اندرجات یا			
• جامی اندرجات			
کیا اندرجات کے درست فارمول استعمال کرتے ہوئے آنے والے سامان کی پڑائی کا اندرجات کیا گیا؟			
کیا موزوں اصلاحی اقدامات کئے گئے اور ان کا اندرجات کیا گیا؟			
اگر اطلاق ہوتا ہو۔ کیا جامی ریکارڈ مکمل کیا گیا اور اس پر دستخط کئے گئے؟			

اگر اور دینے گئے سوالات میں سے کسی کا جواب "نہیں" میں ہے تو پھر مندرجہ ذیل جدول میں اصلاحی اقدام کی تفصیلات لکھیں۔

اصلاحی اقدام

ذیلی جگہ کو پورے ہفتہ کے دوران داخلی قواعد سے کی انحراف کی تفصیلات کے اندرجات کے لئے استعمال کیا جائے۔

داخلی قواعد سے جو انحراف مٹاہدہ میں آیا	کئے گئے اصلاحی اقدامات

منیجر/مالک کے دستخط تاریخ

پرو ب تصریح میٹر کی مہانہ پڑتال

پرو ب تصریح میٹر کے اندرجات کی تفصیلات

												مینڈن
												برفت ملنے یا گردہ پانی کا درجہ حرارت
												ابلتے ہوئے پانی کا درجہ حرارت
												کس نے پڑتال کی

0. برفت ملنے پانی کا درجہ حرارت منفی ایک (-1) ڈگری سنتی گریڈ سے لے کر ایک (+1) ڈگری سنتی گریڈ سے ہونا چاہئے۔ اگر درجہ حرارت اس حد سے کم یا زیادہ ہو تو اپنا یونٹ تبدیل کر دیں یا اسے دوبارہ درجہ بندی کے لئے تیار کنندہ کمپنی کو واپس بھجوادیں۔

0. ابلتے ہوئے پانی کا درجہ حرارت 99 ڈگری سنتی گریڈ سے لے کر 101 ڈگری سنتی گریڈ سے کے درمیان ہونا چاہئے۔ اگر درجہ حرارت اس حد سے کم یا زیادہ ہو تو اپنا یونٹ تبدیل کر دیں یا اسے دوبارہ درجہ بندی کے لئے تیار کرنے والی کمپنی کو واپس بھجوادیں۔

آئندہ سالانہ درجہ بندی کی مجوزہ تاریخ	آلات کی سالانہ درجہ بندی کی تفصیلات اور تاریخ
--	--

آپ کی توجہ کے لئے۔ کمانوں کے بھلی سے چلنے والے نمائشی یو تسوں کی سال میں ایک مرتبہ لازمی طور پر پڑتال کرنا چاہئے۔ یہ یونٹ بناءے والی کمپنیاں بھی درجہ بندی کی خدمت کی پیشکش کرتی ہیں۔

نظر ثانی

ایک اے سی پی (HACCP) پر بنی کام کے طریقوں کوتاڑہ تریں رکھنا لازمی ہے۔ آپ کے نظام پر نظر ثانی باقاعدگی سے ہونا چاہئے اس کے لئے بہتریں یہ ہے کہ یہ نظر ثانی ہر چھ ماہ بعد کی جائے یا پھر مندرجہ ذیل جدول میں مذکورہ ممکنہ صورت حال پیدا ہونے کی صورت میں کرنا چاہئے۔

اس جدول کو ایک اے سی پی (HACCP) پر بنی نظام میں کسی اضافہ یا تبدیلی کے باعث صورت حال کی نشاندہی کے لئے استعمال کریں نیز آپ نے جو تبدیلیاں کی ہیں ان کا اندرجات کریں۔

نظر ثانی کی تاریخ

مثالیں	کیا الاطلاق ہوتا ہے؟ ہاں یا نہیں	اگر جواب ہاں میں ہے تو آپ کے ایک اے سی پی (HACCP) پر معینی طریقہ کار میں کیا تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے؟	کسی نئے قسم کے کھانے کو بالکل ہی مختلط طریقے سے تیار کرتے وقت
			کوئی پاہاںان / فراہم کرننے والے سامان کی رسد کے نئے طریقے سے تعارف کرنا
			عمارت کی داغ بیل میں کوئی تبدیلیاں
			داخلی قواعد میں تبدیلیاں
			معاقی خاکہ کا معائن جس کے دوران کوئی کمی یا کوتاہی سامنے آئی
			ممکنہ خطوات اور خدشات پر نئی معلومات کی دستیابی
			صنافی کے لئے کیمپانی مرکبات کی تبدیلی
			عملہ میں تبدیلیاں
			گاہک کی شکایت
			شہماہی نظر ثانی (اگر الاطلاق جوتا ہو)
			دیگر ایسے عوامل جن کا اپرڈر کرنیں کیا گیا (تفصیل)

گ سیف - محفوظ طریقے سے کھانا پکانا

تحفظ خوراک کا حصہ نظام

یادداشتیں اور رابطے

یہ حصہ یوں اسی سی پی پر بنی اپنے نظام کے حوالے سے دیگر تمام متعلقہ معلومات رکھنے کے لئے آپ کے لئے منصہ ہے

ہمارے کام کے بارے میں مزید معلومات کے لئے برائے میر بانی مندرجہ ذیل پتہ پر رابطہ کریں:

HACCP Team Scotland
Food Standards Agency
St Magnus House
6th Floor
25 Guild Street
Aberdeen
AB11 6NJ
شیڈ نون: (01224) 285100
ایمیل: HACCP.scotland@foodstandards.gsi.gov.uk
وےب سائٹ: www.food.gov.uk



FOOD
STANDARDS
AGENCY

SCOTLAND
Buidheann
Inbhe-Bidhe
an Alba